



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الحج بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ج
الر

.1

الف۔ لام۔ را۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور کھلے قرآن کی۔

مُرَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَالُوا مُسْلِمِينَ

.2

کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کسی طرح مسلمان ہوتے۔

ذُرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَلُ

.3

چھوڑ دے اُن کو، کھالیں اور برت (مزے کر) لیں، اور امید پر بھولے رہیں،

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

کہ آگے (عنقریب) معلوم کریں گے۔

.4

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ

اور کوئی بستی ہم نے نہیں کھپائی (ہلاک) مگر اسکا لکھا تھا مقرر (پہلے سے طے شدہ)۔

.5

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

نہ شتابی (جلدی) کرے کوئی فرقہ (قوم) اپنے وعدے (ہلاکت کے مقررہ وقت) سے اور نہ دیر کرے۔

.6

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

اور لوگ کہتے ہیں، اے شخص! کہ تجھ پر اتری ہے نصیحت، تو مقرر (ضرور) دیوانہ ہے۔

.7

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَايِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتے، اگر تو سچا ہے۔

.8

مَا نُزِّلُ الْمَلَايِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ

ہم نہیں اتارتے فرشتے مگر کام ٹھہرا کر (عذاب کے فیصلے کے ساتھ)، اور اس وقت نہ ملے گی انکو ڈھیل (مہلت)۔

.9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

(بیشک) ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم اسکے نگہبان ہیں۔

.10

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجھ سے پہلے کئی فرقوں (قوموں) میں اگلے (پہلی)۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

اور نہیں آیا ان پاس کوئی رسول، مگر کرتے رہے اس سے ہنسی۔

كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

اسی طرح پیٹھتے (ڈال دیتے) ہیں ہم اس کو، دل میں گنہگاروں کے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ^{صل} وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہو یائی (ہوتی آئی) ہے رسم پہلوں کی۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے، اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں۔

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ

یہی کہیں کہ ہماری نگاہ ہی بند کی ہے، نہیں، ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کے آگے۔

وَحَفِظْنَاَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَاجِمٍ

اور بچا رکھا اس کو ہر شیطان مردود سے۔

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ

مگر جو چوری سے سُن گیا، سو اس کے پیچھے بڑا انکار اچھلتا۔

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

اور زمین کو ہم نے پھیلا یا اور ڈالے اس میں (پہاڑوں کے) بوجھ، اور اُگائی اس میں ہر چیز اندازے کی۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

اور بنا دیں (فراہم کیں) تم کو اس میں روزیاں، اور (ان کے لئے بھی) جن کو تم نہیں روزی دیتے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

اور ہر چیز کے ہم پاس خزانے ہیں، اور اتارتے ہیں ہم ٹھہرے (مقرر کئے) ہوئے اندازے پر۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

اور چلا دیں ہم نے باویں (ہوائیں) رس بھری، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پھر تم کو وہ پلایا، اور تم نہیں رکھتے اس کا خزانہ۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

اور ہم ہی ہیں جلاتے (زندگی دیتے) اور مارتے اور ہم ہی ہیں پیچھے (وارث) رہتے۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

اور ہم نے جان رکھا ہے جو آگے بڑھے (پہلے گزر چکے) ہیں تم میں،

اور جان رکھے ہیں پچھاڑی (بعد میں آنے) والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ^ج

اور تیرا رب، وہی گھیر لائے (اکھٹا کرے) گا ان کو،

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

بیشک وہی ہے حکمتوں والا خبردار۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنے گارے سے۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

اور جان (جنوں) کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے سنے گارے سے۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

پھر جب ٹھیک کروں (بنا چکوں) اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے (روح)،

تو گر پڑو اسکے سجدے میں۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سارے اکٹھے۔

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

مگر ابلیس نے۔ نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے۔

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

فرمایا، اے ابلیس! کیا ہوا تجھ کو؟ کہ نہ ساتھ ہو اسجدے والوں کے۔

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ

بولاً، میں وہ نہیں سجدہ کروں ایک بشر کو کہ تو نے بنایا کھکھناتے سے گارے سے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ

فرمایا تو تو نکل یہاں سے، تجھ پر پھینک مار (تو مردود) ہے۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تجھ پر پھٹکار (لعنت) ہے انصاف کے دن تک۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

بولاً، اے رب! تو مجھ کو ڈھیل (مہلت) دے اسدن تک کہ (جب) مردے جیویں (دوبارہ پیدا کئے جائیں)۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

فرمایا تو تجھ کو ڈھیل (مہلت) دی ہے۔

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

.38

اسی ٹھہرے (مقررہ) وقت کے دن تک۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

.39

بولو، اے رب! جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھویا، میں ان کو بہاریں (دل فریبیاں) دکھاؤں گا زمین میں، اور راہ سے کھوؤں (بھٹکاؤں) گا ان سب کو۔

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

.40

مگر جو تیرے چنے بندے ہیں۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

.41

فرمایا، یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

.42

جو میرے بندے ہیں، تجھ کو ان پر زور نہیں، مگر جو تیری راہ چلا خراب لوگوں میں۔

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

.43

اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا۔

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

.44

اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

جو پرہیزگار ہیں باغوں میں ہیں اور چشموں میں۔

.45

ادْخُلُوها بِسَلَامٍ آمِنِينَ

جاؤ اس میں سلامتی سے خاطر جمع (اطمینان) سے۔

.46

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ

اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی خفگی، بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے۔

.47

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے۔

.48

تَبَيَّنْتُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

خبر سنادے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصلی بخشنے والا مہربان۔

.49

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

اور یہ بھی کہ میری مار وہی دکھ کی مار (دردناک عذاب) ہے۔

.50

وَبَلَّغْتُهُمْ عَنْ ضَعْفِ إِبْرَاهِيمَ

اور احوال سنانا کو ابراہیم کے مہمانوں کا۔

.51

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا

جب چلے آئے اسکے گھر میں اور بولے سلام۔

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

وہ بولا ہم کو تم سے ڈر آتا ہے۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

بولے، ڈر مت! ہم تجھ کو خوشی سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی۔

قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبَشَّرُونَ

بولا، تم خوشی سناتے ہو، مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، اب کا ہے پر خوشی سناتے ہو۔

قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ

بولے، ہم نے تجھ کو خوشی سنائی تحقیق (برحق)، سو مت ہو تو نا امیدوں میں۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

بولا، اور کون آس توڑے اپنے رب کی مہر (رحمت) سے؟ مگر جو راہ بھولے ہیں۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

بولا، پھر کیا مہم ہے تمہاری؟ اے اللہ کے بھیجو!

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

.58

بولے، ہم بھیجے آئے ہیں ایک قوم گنہگار پر۔

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ

.59

مگر لوط کے گھر والے، ہم ان کو بچالیں گے سب کو۔

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ

.60

مگر ایک اس کی عورت، ہم نے ٹھہرا (طے کر) لیا، وہ ہے رہ جانے والوں میں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ

.61

پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے۔

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ

.62

بولاتم لوگ ہو گئے اوپرے (لگتے ہوا جنسی)۔

قَالُوا بَلْ جُنُنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ

.63

بولے نہیں! پر ہم لائے ہیں تجھ پاس (وہ عذاب) جس میں وہ جھگڑتے (شک کرتے) تھے۔

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

.64

اور ہم لائے ہیں تجھ پاس مقرر (حق) بات، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ

سولے نکل اپنے گھر والوں کو رات رہے سے، اور آپ چل ان کے پیچھے، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی،

وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ

اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُوَلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ

اور چکا (بتا) دیا ہم نے اس کو وہ کام، کہ ان کی جڑ کٹی ہے (کٹ کر رہے گی) صبح ہوتے۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون

بولو، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو رُ سوامت کرو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُون

اور ڈرو اللہ سے، اور میری آبرومت کھوؤ۔

قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

بولے، ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا؟ جہان کی حمایت سے۔

.71

قَالَ هُوَ لِأَبْنَائِي إِنْ كُنْتُمْ فَأَعْلِينَ

بولا، یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں، اگر تم کو (کچھ) کرنا (ہی) ہے۔

.72

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

قسم ہے (اے نبی) تیری جان کی! وہ (اس وقت) اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔

.73

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

پھر پکڑا ان کو چنگھاڑنے سورج نکلنے۔

.74

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ

پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے۔

.75

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

بیشک اس میں پتے (نشانیوں) ہیں دھیان کرنے (بصیرت) والوں کو۔

.76

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ

اور وہ بستی ہے سیدھی راہ پر۔

.77

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

البتہ اس میں نشانی ہے یقین کرنے والوں کو۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ

اور تحقیق (یقیناً) تھے بن (ایک) کے رہنے والے گنہگار۔

.78

فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

سو ہم نے اُن سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر راہ پر نظر آتے۔

.79

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ

اور تحقیق (یقیناً) جھٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو۔

.80

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

اور دیں ہم نے ان کو نشانیاں، سو (مگر) رہے ان کو ٹلاتے۔

.81

وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ

اور تھے تراشتے پہاڑوں کے گھر خاطر جمع (اطمینان) سے۔

.82

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ

پھر پکڑا انکو چٹکھاڑنے، صبح ہوتے۔

.83

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

پھر کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے۔

.84

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ^{قُلْ}

اور ہم نے بنائے نہیں آسمان وزمین اور جو ان کے بیچ ہے، بغیر تدبیر (مقصد)۔

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

اور قیامت مقرر آئی (آنی) ہے، سو کنارہ پکڑ (درگزر کر) اچھی طرح کنارہ (درگزر)۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

تیرا رب جو ہے، وہی ہے بنانے والا (خالق) خبردار۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَاقِبِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں وظیفہ، اور قرآن بڑے درجے کا۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

مت پسار (دراز کر) اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دیں ہم نے انکو کئی طرح کے لوگوں کو،
اور نہ غم کھا ان پر،

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر (صاف صاف)۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ

.90

جیسا ہم نے بھیجا ہے اُن بانٹی کرنے (فروق میں بٹنے) والوں پر۔

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

.91

جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں (ٹکڑے ٹکڑے)۔

فَوَسِّرْكَ لِنَسَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

.92

سو قسم ہے تیرے رب کی! ہم کو پوچھنا ہے اُن سب سے۔

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

.93

جو کام کرتے تھے۔

فَأَصْدَعْ بِمَأْتِكُمْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

.94

سو سنا دے کھول کر (ڈنکے کی چوٹ پر) جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک والوں کا۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

.95

ہم بس (کافی) ہیں تیری طرف سے ٹھٹھے (مذاق) کرنے والوں کو۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

.96

جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور کسی کی بندگی۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سو آگے (عنقریب) معلوم کریں گے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

اور ہمیں جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا (کوفت ہوتی) ہے اُن کی باتوں سے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی، اور رہ سجدہ کرنے والوں میں۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

اور بندگی کر اپنے رب کی، جب تک پہنچے تجھ کو یقین۔
